

مشق نمبر ٥٢

اسم الفاعل

جہ	نصب	رفع	غَافِلٌ
غَافِلٌ	غَافِلًا	غَافِلٌ	مذکر واحد
غَافِلَيْنِ	غَافِلَيْنِ	غَافِلَانِ	تثنیہ
غَافِلِينَ	غَافِلِينَ	غَافِلُونَ	جمع
غَافِلَةً	غَافِلَةً	غَافِلَةٌ	مؤنث واحد
غَافِلَتَيْنِ	غَافِلَتَيْنِ	غَافِلَتَانِ	تثنیہ
غَافِلَاتٍ	غَافِلَاتٍ	غَافِلَاتٌ	جمع
			خَاسِرٌ
خَاسِرٌ	خَاسِرًا	خَاسِرٌ	مذکر واحد
خَاسِرَيْنِ	خَاسِرَيْنِ	خَاسِرَانِ	تثنیہ
خَاسِرِينَ	خَاسِرِينَ	خَاسِرُونَ	جمع
خَاسِرَةً	خَاسِرَةً	خَاسِرَةٌ	مؤنث واحد
خَاسِرَتَيْنِ	خَاسِرَتَيْنِ	خَاسِرَتَانِ	تثنیہ
خَاسِرَاتٍ	خَاسِرَاتٍ	خَاسِرَاتٌ	جمع

(٥٢/٢)

جمع	تثنية	واحد	مُسَلِّمٌ
مُسَلِّمٌ	مُسَلِّمًا	مُسَلِّمٌ	مذكر واحد
مُسَلِّمَيْنِ	مُسَلِّمَيْنِ	مُسَلِّمَانِ	تثنية
مُسَلِّمِينَ	مُسَلِّمِينَ	مُسَلِّمُونَ	جمع
مُسَلِّمَةً	مُسَلِّمَةً	مُسَلِّمَةٌ	مؤنث واحد
مُسَلِّمَتَيْنِ	مُسَلِّمَتَيْنِ	مُسَلِّمَتَانِ	تثنية
مُسَلِّمَاتٍ	مُسَلِّمَاتٍ	مُسَلِّمَاتٌ	جمع
			مُكْذِبٌ
مُكْذِبٌ	مُكْذِبًا	مُكْذِبٌ	مذكر واحد
مُكْذِبَيْنِ	مُكْذِبَيْنِ	مُكْذِبَانِ	تثنية
مُكْذِبِينَ	مُكْذِبِينَ	مُكْذِبُونَ	جمع
مُكْذِبَةً	مُكْذِبَةً	مُكْذِبَةٌ	مؤنث واحد
مُكْذِبَتَيْنِ	مُكْذِبَتَيْنِ	مُكْذِبَتَانِ	تثنية
مُكْذِبَاتٍ	مُكْذِبَاتٍ	مُكْذِبَاتٌ	جمع
			مُنَافِقٌ
مُنَافِقٌ	مُنَافِقًا	مُنَافِقٌ	مذكر واحد
مُنَافِقَيْنِ	مُنَافِقَيْنِ	مُنَافِقَانِ	تثنية
مُنَافِقِينَ	مُنَافِقِينَ	مُنَافِقُونَ	جمع
مُنَافِقَةً	مُنَافِقَةً	مُنَافِقَةٌ	مؤنث واحد
مُنَافِقَتَيْنِ	مُنَافِقَتَيْنِ	مُنَافِقَتَانِ	تثنية
مُنَافِقَاتٍ	مُنَافِقَاتٍ	مُنَافِقَاتٌ	جمع

(۵۲/۳)

متکبیرہ	واحد	ثنیہ	جمع
مذکر واحد	مُتَكَبِّرٌ	مُتَكَبِّرَانِ	مُتَكَبِّرُونَ
”	مُتَكَبِّرَانِ	مُتَكَبِّرِينَ	مُتَكَبِّرِينَ
”	مُتَكَبِّرُونَ	مُتَكَبِّرِينَ	مُتَكَبِّرِينَ
مؤنث واحد	مُتَكَبِّرَةٌ	مُتَكَبِّرَتَانِ	مُتَكَبِّرَاتٌ
”	مُتَكَبِّرَتَانِ	مُتَكَبِّرَاتٍ	مُتَكَبِّرَاتٍ
”	مُتَكَبِّرَاتٌ	مُتَكَبِّرَاتٍ	مُتَكَبِّرَاتٍ

اسم الفاعل کی شناخت

۱ وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (البقرہ: ۷۴)

مادہ = غ ف ل (ن) ثلثی مجرد

صیغہ = نمبر ۱ واحد مذکر

اعرابی حالت = مجرد بوجہ پر

ترجمہ = اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

۲ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

مادہ = س ل م (س) باب افعال

صیغہ = مذکر ثنیہ صیغہ = واحد مؤنث

اعرابی حالت = منصوب بوجہ مفعول بہ

اے ہمارے رب! اور ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا،

اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو اپنا فرمانبردار بنا۔

(۵۲/۴)

۳ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَ
هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (النحل: ۲۲)

مُسْتَكْبِرُونَ

مُنْكَرَةٌ

اسم الفاعل =

ن. ب. ر. اسْتَقْبَلُ

ن. ك. ر. اِفْعَالٌ

ماده =

جمع - مذکر

واحد - مؤنث

صیغہ =

رفع بوجہ خبر

رفع بوجہ خبر

اعرابی حالت =

ترجمہ:

پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل انکاری ہیں، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔

۴ وَ لِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (العنکبوت: ۱۱)

اسم الفاعل: الْمُنَافِقِينَ

ماده: ن. ف. ق. مُفَاعَلَةٌ

Samra Khalil Uppal

صیغہ: جمع - مذکر -

اعرابی حالت: منصوب بوجہ مفعول

ترجمہ:

اور یقیناً اللہ جانتا ہے ایمان والوں کو، اور یقیناً وہ منافقوں کو جانتا ہے۔

(۵۲/۵)

۵ كَذَلِكَ يَطْبِخُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (المومن: ۳۵)

اسم الفاعل: مُتَكَبِّرٍ
ماده: ك. ب. ر. باب تَفَعُّلٌ
صيغته: واحد - مذکر

اعرابی حالت: مجرور بوجه مضاف الیه

ترجمہ: اس طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے جابر پر مہر

لگا دیتا ہے۔

۶ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اسم الفاعل: الْمُفْلِحُونَ
ماده: ف. ل. ح. باب اَفْعَالٌ
صيغته: جمع مذکر

اعرابی حالت: رفع بوجه خبر

ترجمہ: خبردار! یقیناً اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔

۷ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (المنافقون: ۱)

اسم الفاعل: الْمُنَافِقِينَ
ماده: ن. ف. ق. تَفَاعُلَةٌ
صيغته: جمع مذکر

كَاذِبُونَ

ر. ذ. ب. (ض)
جمع مذکر

ن. ف. ق. تَفَاعُلَةٌ

جمع مذکر

اعرابی حالت: منصوب بوجه اسم ان سرفوع بوجه خبر ان

ترجمہ: اور اللہ گواہ ہے، بے شک منافقین ہی

تھوٹے ہیں۔

(۵۲/۶)

۸ وَ مَنْ يَفْتَلِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ (المنافقون: ۹)

اسم الفاعل۔ الْخٰسِرُونَ

مادہ۔ خ۔ س۔ ر (س)

صیغہ۔ جمع مذکر

اعرابی حالت۔ مرفوع بوجہ خبر

توجہ۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا، یہی لوگ خسارہ

پانے والے ہیں۔

